

تَحَدُّةٌ وَنُصَلِّيٌّ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

Read this first

It is mentioned in the books that the pious predecessors رَحِمَهُمُ اللَّهُ would wait for the blessed month of Ramadan, the month of worship, spiritual training, blessings and mercy, six months prior to its arrival. Similarly, the renowned spiritual guide and leader of Ahl al-Sunnah, Mawlana Ilyas Attar al-Qadiri دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ regularly supplicates to meet Ramadan with health and well-being, with the words:

اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ بِصِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ

“O Allah Almighty! Allow us to reach Ramadan with health and well-being.”

Last year, “The Weekly Booklet Department”, a sub-department of Dawat-e-Islami’s al-Madinah-tul-Ilmiyyah, released a publication called *Memories of Ramadan*, which was a collection of Ameer Ahl al-Sunnah’s writings from Ramadan.

اللَّهُمَّ The second part to this, *Memories of Ramadan Part 2*, which is based on memories from last Ramadan (1444 AH), has now been published and is before you.

The Amir of Ahl al-Sunnah دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ would write down a pearl of wisdom – such as a Hadith, or a statement of a pious predecessor – every day, and give it to an Islamic brother. اللَّهُمَّ In this manner, a reminiscence of Ramadan was preserved in written format. Like the first part, the same manner has been adopted in this second part, where the page number is the same as the date of Ramadan.

Some of the writings have been amended, but all the points are different from those mentioned in the first part. Additionally, links to short clips of the Amir of Ahl al-Sunnah دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ discussing rulings have been given in QR code format on each page. These can be scanned, allowing one to learn Islamic rulings regarding a range of topics in question-and-answer format. May Allah Almighty accept this booklet in His court and make it a means of forgiveness without accountability for us.

اٰمِيْنُ بِجَاہِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Abu Muhammad Tahir Madani Attari عَفِيَ عَنْهُ

Al-Madina-tul-Ilmiyyah Islamic Research Centre (Weekly Booklet Department)

آیا رمضان آیا ما رمضان
و ادا کی بات ما رمضان

اللہ

یا رمضان



بیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي مِنْ رَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي وَسَلِّمْهُ مِنِّي -

ترجمہ: اے اللہ! مجھے رمضان المبارک میں

سلامت رکھو اور رمضان شریف کو میرے

لئے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی

صیلاو علی الحبيب
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

When Ramadan would arrive, the beloved Prophet ﷺ would recite this supplication:

اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي مِنْ رَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي وَسَلِّمْهُ مِنِّي

Translation: O Allah! Preserve me in Ramadan, make Ramadan a safeguard for me, and allow it to pass over me with safety.

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ



بھوک پیاس برداشت کرنا اور راتوں کو
جاگنا آسان ہے مگر ”بُری اخلاق“ کا

علاج بہت مُشکل ہے۔ (عُنْدِہِ الطَّالِبِینِ (اردو) ص ۶۸۷)

۱۰ - ۱۱ - ۱۲
۱۳ - ۱۴ - ۱۵
۱۶ - ۱۷ - ۱۸
۱۹ - ۲۰ - ۲۱
۲۲ - ۲۳ - ۲۴
۲۵ - ۲۶ - ۲۷
۲۸ - ۲۹ - ۳۰
۳۱ - ۳۲ - ۳۳
۳۴ - ۳۵ - ۳۶
۳۷ - ۳۸ - ۳۹
۴۰ - ۴۱ - ۴۲
۴۳ - ۴۴ - ۴۵
۴۶ - ۴۷ - ۴۸
۴۹ - ۵۰ - ۵۱
۵۲ - ۵۳ - ۵۴
۵۵ - ۵۶ - ۵۷
۵۸ - ۵۹ - ۶۰
۶۱ - ۶۲ - ۶۳
۶۴ - ۶۵ - ۶۶
۶۷ - ۶۸ - ۶۹
۷۰ - ۷۱ - ۷۲
۷۳ - ۷۴ - ۷۵
۷۶ - ۷۷ - ۷۸
۷۹ - ۸۰ - ۸۱
۸۲ - ۸۳ - ۸۴
۸۵ - ۸۶ - ۸۷
۸۸ - ۸۹ - ۹۰
۹۱ - ۹۲ - ۹۳
۹۴ - ۹۵ - ۹۶
۹۷ - ۹۸ - ۹۹
۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲
۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵
۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸
۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱
۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴
۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷
۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰
۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳
۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶
۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹
۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲
۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵
۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸
۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱
۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴
۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷
۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰
۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳
۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶
۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹
۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲
۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵
۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸
۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱
۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴
۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷
۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰
۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳
۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶
۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹
۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲
۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵
۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸
۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱
۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴
۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷
۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰
۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳
۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶
۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹
۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲
۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵
۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸
۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱
۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴
۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷
۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰
۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳
۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶
۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹
۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲
۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵
۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸
۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱
۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴
۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷
۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰
۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳
۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶
۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹
۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲
۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵
۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸
۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱
۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴
۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷
۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰
۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳
۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶
۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹
۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲
۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵
۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸
۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱
۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴
۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷
۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰
۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳
۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶
۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹
۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲
۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵
۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸
۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱
۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴
۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷
۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰
۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳
۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶
۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹
۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲
۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵
۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸
۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱
۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴
۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷
۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰
۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳
۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶
۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹
۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲
۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵
۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸
۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱
۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴
۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷
۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰
۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳
۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶
۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹
۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲
۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵
۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸
۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱
۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴
۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷
۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰
۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳
۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶
۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹
۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲
۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵
۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸
۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱
۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴
۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷
۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰
۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳
۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶
۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹
۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲
۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵
۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸
۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱
۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴
۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷
۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰
۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳
۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶
۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹
۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲
۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵
۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸
۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱
۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴
۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷
۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰
۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳
۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶
۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹
۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲
۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵
۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸
۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱
۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴
۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷
۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰
۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳
۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶
۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹
۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲
۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵
۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸
۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱
۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴
۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷
۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰
۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳
۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶
۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹
۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲
۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵
۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸
۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱
۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴
۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷
۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰
۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳
۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶
۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹
۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲
۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵
۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸
۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱
۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴
۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷
۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰
۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳
۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶
۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹
۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲
۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵
۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸
۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱
۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴
۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷
۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰
۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳
۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶
۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹
۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲
۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵
۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸
۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱
۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴
۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷
۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰
۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳
۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶
۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹
۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲
۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵
۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸
۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱
۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴
۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷
۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰
۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳
۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶
۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹
۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲
۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵
۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸
۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱
۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴
۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷
۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰
۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳
۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶
۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹
۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲
۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵
۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸
۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱
۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴
۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷
۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰
۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳
۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶
۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹
۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲
۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵
۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸
۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱
۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴
۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷
۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰
۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳
۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶
۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹
۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲
۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵
۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸
۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱
۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴
۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷
۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰
۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳
۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶
۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹
۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲
۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵
۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸
۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱
۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴
۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷
۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰
۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳
۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶
۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹
۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲
۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵
۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸
۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱
۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴
۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷
۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰
۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳
۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶
۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹
۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲
۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵
۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸
۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱
۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴
۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷
۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰
۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳
۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶
۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹
۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲
۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵
۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸
۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱
۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴
۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷
۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰
۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳
۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶
۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹
۱۰۰۰

جھوم جاؤ گناہ گارو اب، بخش دیا کروم سے پیار رب
مرحباً! آئیامہ غُفراں، واہ! کیا بات ماہِ رمضان کی

“Enduring hunger and thirst, and remaining awake at night is easy,
but curing bad character is very difficult.”

(Ghunyat al-Tālibīn (Urdu), p. 687)



اللّٰهُ

بَارِئُ رَضَاتٍ

وُضُوءِ كَيْ بَعْدِ دَاوْرِهِ فِي كَنْغِي كَرِنَا
فَقِيرِي (بِعْنِي عُزْبَتِ) كُو دُوْر كَرِنَا بِي -

(مِرَاةٌ 6/163 - اَشِيْعَةُ اللّٰمِآتِ)

۲۳ رمضان ۱۴۳۸ھ
۲۵-۳-۲۰۱۸
۱۱-۱۱-۱۱

“Combing the beard after ablution removes poverty.”

(*Mir'at*, vol. 6, p. 163; *Ashi'at al-Lam'at*)



اللہ

یادِ رمضان

قرض کا نقصان دینہ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: "قرض

دین کا عیب ہے۔" (تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵ ص ۵۲۳)

بزرگانِ دین ^{رحمہم اللہ الامین} فرماتے ہیں: قرض کا ٹینشن

عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ (مراۃ ج ۴ بالتقرض)

عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ (مراۃ ج ۴ بالتقرض)

واہ! کیا ماہِ رمضان کی


Harms of debt

The beloved Prophet ﷺ said, "Debt is a defect in religion."

(Tārīkh Dimashq li Ibn 'Asākir, vol. 5 , p. 523)

The pious predecessors رحمہم اللہ said, "The stress of debt ruins the intellect."

(Mir'āt, vol. 4, with changes)



اللہ

بادِ رمضان

حضرت زبیر بن عوف بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ بیماری، دوا اور شفا کیا ہے؟ عرض کی: نہیں معلوم۔ فرمایا: ”بیماری گناہ، دوا توبہ و استغفار اور شفا یہ ہے کہ گناہ سے ایسی پگنی توبہ کرو کہ

27-1-23
ماہِ رمضان
صبر و توبہ
بہارِ نبوی
27-1-23

(الزهد للإمام أحمد، زهد محمد بن عوف، ص 339، رقم 1183)

پھر اس کی طرف نہ لوٹو۔“

بازِ جنتِ خدا سے پائے گا، بارِ روزِ جمعہ وہ نجات کا
جو طبی ہے عاشقِ مہِ رمضان، وہ! کیا ماہِ رمضان کی

Sayyidunā al-Rabī' b. Khuthaym رحمۃ اللہ علیہ once asked his students, “Do you know what the illness, medicine and cure are?”

“We do not know,” they replied.

He رحمۃ اللہ علیہ said, “Illness is sin, its medicine is repentance and seeking forgiveness, and the cure is that one makes such sincere repentance from sins that he does not return to them again.” (Al-Zuhd li Imam Ahmad, Zuhd Muhammad b.

Sīrīn, p. 339, number:1983)



الحمد لله الكريم آج رمضان الکریم کی چھٹی رات سے
تقریباً پونے دو بجے ہیں مدنی مذاکرے سے فارغ
ہو چکا ہوں، آج یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے:
فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

”مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا

ظلم ہے۔“ (بخاری، ۱۰۹/۲، حدیث: ۲۴۰۰)

یا خدا! ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے
زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے

تقریباً پونے دو بجے ہیں
مدنی مذاکرے سے فارغ
ہو چکا ہوں، آج یہ حدیث
پاک بھی بیان کی ہے:
فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم:
”مالدار کا قرض کی ادائیگی
میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔“
-الصوت-

It is around 1:45 am on the 6th night of Ramadan, and I have just finished Madani Muzakarah. I have mentioned this Hadith today as well:

The beloved Prophet ﷺ said, “Procrastination by a wealthy person in repaying debt is oppression.” (*Shāḥih al-Bukhari, vol. 2, p. 109, Hadith: 2400*)



دُعائے افطار کی فضیلت

فرمانِ آخری نبی ﷺ | اے علی! جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو:
 اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔
 تو تہمارے لیے تمام روزے داروں کی مثلِ اجر لکھا جائیگا اور ان کے ثواب میں بھی کسی نہیں کی جائیگی۔

رمضان المبارک
 28-3-23
 2023
 - بتعلم -

اے ترجمہ: اے اللہ پاک! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تجھے پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کئے ہوئے رزق سے افطار کیا۔

Virtue of the supplication of *iftār*

The final Prophet ﷺ said, "O 'Ali! When you fast during the month of Ramadan, recite this supplication:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (O Allah Almighty! I fasted for You, and I placed my trust in You, and I opened my fast with sustenance provided by You.), and the reward equal to that of all fasting people will be recorded for you, and there will be no reduction in their reward."



GHUSLA

صُتِّقِي كَوْنَ؟

حضرت بکر بن عبد اللہ مُزَنِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ
فرماتے ہیں:

کوئی شخص اُس وقت تک صُتِّقِي
(یعنی پرہیزگار) نہیں ہو سکتا جب تک وہ
تَمَقُّعے اور لالچ سے نہ بچے۔

الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا فِي صُدُورِهِمْ خِشْيَةً لِلَّهِ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ يُكْرِمُ اللَّهُ لِمَا كَانُوا يَكْفُونَ

(مصنّف ابنِ ابي شَيْبَةَ ج 8 ص 285)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Who is pious?

Sayyidunā Bakr b. Abdullah al-Muzanī رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ states, “A person cannot be pious until he avoids anger and greed.” (*Muṣannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 285*)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



اللّٰهُ

اباد رمضان

مزار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

غم کم کرنے کا نسخہ

ارشادِ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
جو اپنا لباس صاف رکھے اُس کے غم کم
ہو جائیں گے اور جو خوشبو لگائے اُس کی
عقل بڑھے گی۔ (احیاء العلوم ج ۱ ص ۱۵۱)

رمضان اکبر
۲۵-۳۰
۱۹۶۰

رمضان اکبر کا
دوسرا
جمعہ مبارک

Remedy to reduce sadness


Imam Shāfi'ī رحمۃ اللہ علیہ said, "The one who keeps his clothes clean, his sadness will decrease, and the one who applies perfume, his intelligence will increase."
(Iḥyā' al-'Ulūm, vol. 1, p. 561)

The second blessed Friday of Ramadan



SAY "NO" TO APRIL FOOL

فرمانِ آخری نبی ﷺ
 بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے
 بھائی سے کوئی بات کرے جس
 میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو اور تو اس
 میں جھوٹا ہو۔ (ابوداؤد 294/4 - بحیث: 4971)



اس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکا بھی۔

(مراۃ 6/1 روایت: 4845)

Say no to April Fools' Day

The final Prophet ﷺ said, "It is major treachery for you to speak to your brother about something in which he considers you truthful, whilst you are lying to him regarding it." (This involves lying and deception ; Mir'āt, vol. 6, Hadith: 4845)



اللہ

بادِ رمضان

بدگمانی کے گناہ سے بچئے، یہ دنیا
میں بھی رشتے اور تعلقات خراب کرتی ہے،
قُوْتُ الْقُلُوبِ مہ ہے، حضرت رسولی علی رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں: ”بدگمانی دوست کو دور



کر دیتی ہے۔“ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد

Avoid the sin of having a bad opinion of others; it ruins relationships in the world. It is mentioned in *Qūt al-Qulūb* that Sayyidunā ‘Alī رضی اللہ عنہ said, “Bad assumptions cause friends to become distant.”

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّی اللہُ عَلَی مُحَمَّدٍ



نیکیوں کا تذکرہ کرنے کی فضیلت

فرمانِ آخری نبی (صلى الله عليه وآله وسلم) نیک بندوں کا تذکرہ (گناہوں کا) کفارہ - یعنی

کفارہ (یعنی مٹانے والا) ہے۔

(جامع صغیر ص 264، حدیث: 4331)

۱۲ رمضان المبارک ۱۴۴۲ھ
۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

محبوب
ماہ
رمضان
سے
پیار
ہے

Virtue of mentioning the righteous

The final Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ said: ذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ

“Mention of the righteous is an expiation [for sins].”

(Al-Jāmi‘ al-Ṣaḡhūr, p. 264, Hadith: 4331)

I love the month of Ramadan.



پیدائشِ رمضان

رضی اللہ عنہ
امام حسن کا جشنِ ولادت مبارک (15 رمضان اور مولد)
دینہ

فرمانِ امام حسن
رضی اللہ عنہ
”بے شک سب سے بڑی
عقل مندی پرہیزگاری
اور سب سے بڑی بے وقوفی گناہ و بے حیائی ہے۔“

15 رمضان المبارک
6-4-2023
حضرت امام حسن
رضی اللہ عنہ

Blessed birth of Imam Hasan رضی اللہ عنہ (15th Ramadan)

Imam Hasan رضی اللہ عنہ said, “Indeed, the greatest wisdom is piety, and the greatest foolishness is sin and immodesty.”

مزارِ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ



”اپنی واہوا چاہنا دنیا و آخرت
دونوں کیلئے تباہ کن ہے۔“

۱۶ رمضان
۱۴۴۱ھ
۲۰۲۰
۱۱-۱۱-۲۰
مجلس تہذیب
میں منعقد ہوئی
۱۱-۱۱-۲۰
۱۱-۱۱-۲۰

“Desiring praise is destructive for your
worldly life and your Hereafter.”




اپنی عبادت یا اچھی صورت یا دولت
پر اترانے والے خطا پر ہیں کہ یہ سب چیزیں
اللہ کریم نے عنایت فرمائی ہیں، وہ جب
چاہے واپسی لے سکتا ہے۔

اللہ کریم نے
ان چیزوں کو
اپنی عنایت
فرمائی ہے
کہ وہ جب
چاہے
واپسی
لے سکتا
ہے۔

Those who feel pride due to their acts of worship, their beauty, or their wealth, are mistaken, for it is Allah Almighty who has granted all these things; He can take them back whenever He wills.



نعتِ خوانی عُمَرہ عبادت ہے، نعتِ خواں
کو حُبِّ جاہ و مال سے پاک اور بااخلاق و
باکردار ہونا چاہئے۔



صَلُّوا عَلَيَّ الْكَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

صوت آجائے ترے ذکر کے دوران مجھے
دل سے کہتا ہوں میں اے رسولِ عربین
صَلِّ اللهُ عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Reciting Prophetic odes is an excellent act of worship.
A reciter of Prophetic odes must be free of love for fame
and wealth, and he should have good character.

صَلِّ اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَيَّ الْكَبِيبِ



۱۶ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ


اللہ

بَادِ رَمَضَانَ




رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

” جس مسلمان میں علمِ دین حاصل
کرنے کی حرص اور اس کا شوق ہوگا اُس
کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔“



(لَمَحَاتُ التَّنْقِیْحِ ج ۱ ص ۵۶۹ تا ۵۶۵)



Shaykh ‘Abd al-Ḥaqq Muḥaddith Dīḥlawī رحمۃ اللہ علیہ states, “The Muslim who has desire and passion to gain Islamic knowledge will die upon faith.” (*Lama‘at al-Tanqīḥ*, vol. 1, p. 559 To 560)

Ah! Farewell to the Third of Forgiveness. Farewell.




”بول کر پھتانے سے نہ بول کر
اور کھا کر پھتانے سے
نہ کھا کر پھٹانا اچھا۔“

۱۱ رمضان ۱۴۴۵ھ
۲۰۲۳-۲۰۲۴
۱۲-۴-۲۰۲۳
۱۵-۴-۲۰۲۳
- الصمیت



“Not speaking and feeling regret is better than speaking and feeling regret,
and not eating and feeling regret is better than eating and feeling regret.”





اللّٰهُ

بَارِ رَمَضَانَ

۱) مسجد میں ہنسنے سے منع ہے کہ قبر میں
تاریکی (یعنی اندھیرا) (لائتاج، موقع کے لحاظ
سے تبسم (یعنی مسکرانے) میں حرج نہیں ہے“



(مسجد کا احترام ص 6)

رمضان کا چوتھا
جمعہ مبارک

“Laughing in the masjid is prohibited, as it causes darkness in the grave.
There is no harm in smiling if it is appropriate.” (*Masjid Ka Ihtaram*, p. 6)


The fourth blessed Friday of Ramadan



بِإِذْنِ رَفِيعَانَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِهْنِ! رِه گئے رمضان کے آخري روز سے
رِهائى نارِ جَهَنَّمَ سے سِه عطا يارت!



صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

O Allah Almighty! Only a few fasts of Ramadan remain.
O Lord, may we be granted freedom from the Fire of Hell!

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ



فرمانِ حضرت
حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ

عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے
گھر سے جب نکلو تو جس
مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے
سے افضل جانو۔ (الزواجر، ص 163)

لا ادر رمضان الا ان
الاصوات -

لیلة القدرائی کیا رحمت سبحانی ہے
جو ستوا! رخصت ہوئے دیکھو چلا رمضان
آہ! الوداع ماہ
رمضان



Saying of Sayyidunā Ḥasan al-Baṣrī رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: Humbleness is that when you leave your home, you consider every Muslim you meet to be better than you.

(Al-Zawājir, vol. 1, p. 163)

Ah! Farewell, Ramadan.



”انسان جتنا دُنیوی پریشانیوں سے خوفزدہ
ہے اتنا ہی اُخروی پریشانیوں سے بھی ڈرے
تو اللہ پاک کی رحمت سے دونوں ہی سے بچ جائے۔“



“If a person has as much fear about concerns in the Hereafter as he has about worldly concerns, then with the mercy of Allah Almighty, he will be protected from both of them.”

How sad! How sad! Farewell, O month of Ramadan. Farewell. Ah! Ramadan



اے ماہِ رمضان الوداع

اللہ

یاہِ رمضان

فرمانِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :

”اپنے مقاصد میں کامیابی پانے کیلئے انہی

راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو کیوں کہ دنیا میں

پر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔“


(شعب الایمان 5/277)

بشر رازدلی کہ کر ذلیل و خوار ہو جائے

نکل جاتا ہے جب خوشبو تو گل بے کار تیار ہے

اے ماہِ رمضان الوداع
بشر رازدلی کہ کر ذلیل و خوار ہو جائے
نکل جاتا ہے جب خوشبو تو گل بے کار تیار ہے

اے ماہِ رمضان الوداع
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



The final Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said,
“Seek assistance for success in your needs through secrecy,
for every person who possesses a blessing is envied.”


(Shu‘ab al-Īmān, vol. 5, p. 277)

Farewell, O month of Ramadan. Farewell



فرمانِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۸
 صحراہم ۶ ہوں شخص جس نے رمضان کو
 پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ
 جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوگی

تو پھر کب ہوگی! (معجم اوطاج ص ۳۶۲
 فیضانِ رمضان ص ۲۰۸)



صلّوا علی الحَبِیبِ
 صلی اللہ علی محمد

علیہ السلام کی کچھ بندگی
 اذین ہم کہ شرمندگی
 واحترنا واحترنا
 ما و مبارک الواع

Saying of the final Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: Deprived is the one who witnessed Ramadan but was not forgiven, for if he was not forgiven in Ramadan, then when will he be!

(Al-Mu'jam al-Awsat, vol. 5, p. 366; Blessings of Ramadan, p. 32)

صَلِّ اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ صَلّٰوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ



اللّٰهُ

جُمُعَةُ الْوَدَاعِ
مُبَارَكَةٌ

اٰلِیٰ آتِیَا رَمَضَانَ كَا اٰخِرِی جُمُعَةٍ
رَبِّاٰی نَارِ جَهَنَّمَ سَیَّعُو عَطَا یَا رَبِّ!
اللّٰهُمَّ اٰصِنِ -

۲۰ رمضان المبارک
۲۱-۲۲
صباح ۱۰ بجے
۱۵/۱۶

اَلْوَدَاعُ وَالْوَدَاعُ
یَا شَهْرَ رَمَضَانَ

May you be blessed on the farewell Friday of Ramadan

O Allah Almighty! The last Friday of Ramadan has arrived! O Lord, may we be granted freedom from the Fire of Hell.

اٰمِیْنُ بِجَاہِ خَاتِمِ النَّبِیِّیْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

Farewell, farewell, O month of Ramadan



WEEKLY BOOKLET STUDY

الْحَمْدُ لِلَّهِ Every week, the founder of Dawat-e-Islami, Shaykh al-Tareeqah Ameer Ahl al-Sunnah, Founder of Dawat-e-Islami Hazrat Allamah Mawlana Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ الْعَالِيَةَ, and his successor Al-Haaj Abu Usaid Obaid Raza Madani مَد ظَلَمُ الْعَالِي, encourage the reading of a booklet. مَا شَاءَ اللَّهُ! Millions of Islamic brothers and sisters participate in this blessed activity by reading or listening to this booklet, benefiting from the prayers of Ameer Ahl al-Sunnah and his successor. This booklet is available for free download in audio format on the Dawat-e-Islami website, www.Dawateislami.net, and through the **Read and listen Islamic book application**. With the intention for reward, read it yourself, and distribute it for the Esal-e-Sawab of your deceased ones.

(Department of Weekly Booklet Study)



978-969-722-607-8



01082466



فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی

UAN +92 21 111 25 26 92 0313-1139278

www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net

feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net